



## سوال

(173) قبرستان کی جگہ میں کھیتی باڑی یا مکان کی تعمیر کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

قبرستان مسمار کر کے اس میں کھیتی باڑی کرنا، فروٹ کے درخت لگانا یا مکان بنانا کیسا ہے؟ اس کھیت کی آمدن اور مکان میں قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ (محمود الحسن سلیم، سکرو، بلتستان) (۱۱ جون ۱۹۹۹ء)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد!

اہل اسلام کے قبرستان کو مسمار کر کے اس کی جگہ کھیتی باڑی یا فروٹ کے درخت لگانا یا مکان تعمیر کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کی توہین اور اکرام مسلم کے منافی فعل ہے۔ ہاں البتہ مشرکین کی قبروں کو اکھاڑا جاسکتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ”صحیح“ میں بایں الفاظ باب منعقد کیا ہے:

‘باب: بَلِّغْ نَبِيَّكُمْ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَحَدِّمْ مَكَانَنَا مَسَاجِدَ’

”جس سے مقصود یہ ہے کہ مشرکوں کی قبریں مسمار کر کے وہاں مسجد تعمیر کرنا جائز ہے۔“

پھر اس واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ مسجد نبوی کو مشرکوں کی قبور کی جگہ بنایا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

‘أَمَّا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْبَاءِ عَهْمَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِيَّاتِ فَمِنْ خِلَافِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ لَا حَرَمَةَ لَهُمْ - (۲۳/۱ھ)

”یعنی مشرکوں کی قبروں کو مسمار کرنا جائز ہے اس لیے کہ ان کی کوئی عزت نہیں لیکن انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی قبریں مسمار کرنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں ان کی توہین ہے۔ حنفی فقہ میں ہے:

‘سئل القاضي الامام شمس الانبىة محمود الازجندی عن المتبرفة في القرى اذا درست ولم يبق فيها اثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها قابل واستغلالها قال لا ولها كم المتبرفة كذاني المحيظ فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل الدواب فيها كذاني البحر الرائق - (عالمگیری) -‘

ماحصل اس کا یہ ہے کہ بے نشان قبرستان میں کھیتی باڑی کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ قبرستان کے حکم میں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ کو اپنی اصلی حالت میں بدل دیا جائے اور



اگر کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو سکے پھر اس کی آمدنی اوقاف میں صرف کر دی جائے۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الجنائز: صفحہ: 197

محدث فتویٰ